



سوال

(513) اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب دار ہو جائے تو؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں عیب ہو جائے تو کیا عیب والے کی قربانی کرے یا دوسرا جانور لے کر قربانی کرے؟ جس قربانی کے جانور میں عیب ہو گیا وہ ا کے نام کیا ہوا تھا۔ اب وہ جانور مسجد، مدرسہ یا کسی غریب کو دینا چاہیے یا مالک اپنے لیے رکھ لے؟ (محمد قاسم ۱ ڈنوں سموں گوٹھ حاجی محمد سموں کنزری سندھ) (۱۱۔ اپریل ۱۹۹۷ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسئلہ ہذا میں اہل علم کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن اس میں محقق مسلک یہ ہے کہ قربانی کے دن سے پہلے اگر کوئی ایسا عیب ہو جائے جو قربانی سے مانع ہو تو ایسی صورت میں جانور بدل لینا چاہیے اور معیوب جانور کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صورت چاہے جو نسبی ہو اور اگر اس کو فروخت کر کے قیمت قربانی کے لیے دوسرے خرید شدہ جانور میں ڈال لی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاویٰ اہل حدیث: ۲/۵۳۰۔ شیخنا محدث روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ)

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 406

محدث فتویٰ